CKYC No.	
	سی کے وائی سی نمبر



منتقلی / Form for Assignment

Assignor/ Assignee (as

فويض كننده/ تفويض يافته (جو قابل اطلاق ہو) کی رنگین تصویر

Documents to be collected in case assignee is an individual

Original policy document

اگر منتقل الیہ فردِ واحد ہے تو یہ دستاویزات وصول کی جانیں گی

بالیسی کی اصل دستاو بز

Any one coloured copy of officially valid document (for ID and address proof), which includes Passport, driving license, Election card (Voter id card), Job card issued by NREGA, Letter issued under National Population Register containing details of name and address with photograph

سرکاری طورپر کسی مجاز دستاویز کی رنگین کاپی (شناخت اور پتہ کے ثبوت کے لیے)، جس میں پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، الیکٹنن کارڈ (ووٹر آنی ڈی کارڈ)، نریگا کے تحت جاری کردہ جاب کارڈ اور قومی آبادی رجسٹر کے تد جاری کیا گیا پرچہ شامل ہے، جو تصویر کے ساتھ نام اور پتہ کے تفصیلات پر مشتمل ہو۔

Copy of PAN card or Form 60 (all cases)

PAN کار ڈ یا فار م 60 کی نقل (تمام معاملات میں)

One recent color photograph

ایک حالیہ ترین تصویر

Any one coloured copy of Income proof of the assignee (If annual premium is greater than INR 99,999/-), which includes Income Tax Assessment orders/Income Tax Returns, Employer's Certificate, Form -16 A, Form -16, Recent Pay slips, Bank Cash-flows Statements, Pass-Book, Bank Assessment Form signed by Bank Authorized signatory/SP

تقویض یافتہ شخص کی آمدنی کے ثبرت کی ایک رنگین کاپی (اگر سالانہ پر یمیم کی رقم ۔/99,999 روپے سے بڑی ہے)، جس میں انکم ٹیکس اسسمنٹ آرڈر/ انکم ٹیکس ریٹرن، آجر کی سرٹیفکیٹ، فارم۔16ے، فارم۔16ے، نارہ -16ء تازہ ترین تنخواہ کی پر چی، بینک کی نقدی لین دین کی اسٹیٹمنٹ، پاس بک، بینک کے مجاز دستخط کننٹہ/ایس پی کی دستخط شدہ بینک اسسمنٹ فارم شامل ہے۔

In case of an individual third-party assignment is towards security to a loan availed, a "Promissory note" or "Loan agreement" if any, signed by both assignee and assignor has to be submitted as proof of consideration (In prescribed format of PNB MetLife)

اگر واحد فریق ثالث کی منتقلی حاصل کردہ فرضے کی سیکیورٹی کے لیے ہو، تو منتقل الیہ اور منتقل کنندہ دونوں کی جانب سے دستخط کر ُدہ، حسب دستیاب، ایک ''پر امیسری نوٹ'' یا ''فرضے کا معاہدہ'' ادائیگیٰ کے ثبوت کے طور پر جمع کروانا ہوگا (PNB MetLife کے بیان کردہ فارمیٹ میں) New ACH/ Direct debit request from the assignee in case premium is being paid by the assignee (Applicable only in case of absolute assignment and assignee wants to pay future

premium through Direct Debit)

اگر پریمیئم تفویض الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو تو تفویض الیہ کی طرف سے نئی ACH/ڈائریکٹ ڈییٹ کی درخواست (صرف اس صورت میں اس کا اطلاق ہوگا کہ تفویض قطعی ہو اور ُتفویض الیہ مستقبلؓ کا پریمیئم) ڈائریکٹ ڈییٹ کے ذریعے ادا کرنا چاہتا ہو

If Proof of possession of Aadhaar is submitted as ID and address proof, touch points to ensure that first 8 digits are properly masked and only last 4 digits are visible اگر شناختی کارڈ اور ایڈریس پروف کے طور پر آدہار پاس میں بونے کا ثبوت جمع کرایا جاتا ہے، تو یہ یقینی بنانے کے لیے پواننٹس ٹچ کریں کہ پہلے 8 بندسوں کو صحیح طریقے سے ماسک کیا گیا ہے اور صرف آخری 4 بند دکھائی دے رہے ہیں

Note:-

نوٹ:-

- Fields marked with "*" are mandatory to be filled if the request is submitted for individual assignment/ re-assignment to an individual. If any of the fields are not filled the request will not be accepted
- اگر انفرادی اسائنمنٹ/ کسی فرد کی ری-اسائنمنٹ کے لیے درخواست دی گئی ہے، تو "*" سے نشان زد خانے کو بھرنا لازمی ہے۔ اگر کسی خانہ کو بھرا نہیں گیا، تو درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ Please refer PNB MetLife India Insurance Company Limited (PMLI) website or contact your nearest branch or call at our Call center as mentioned below herein for necessary documentation required to be submitted for other types of assignment

بطہ	سے ر	رانچ س	رین بر	قریب ت	اپنی	کریں یا	حظہ ک	ئث ملا.	بب سا	ئى وي	MP) ²	LI) 34	بى تەپ	,- U-	33																									کریں ی
Ass	ignor	Det	ails:																																	<u>ت:</u>	فصيلاه	ه ک <i>ی</i> ت	ے کنندہ	تفويض
*Pc	licy N	lumb	er:						Τ				7											*R	eque	st su	omiss	ion D	ate:		D	D	IVI	IVI	Υ	Y	Y	Υ		
	:	، تاريخ	ے کی	ے ع کروان	ت جم	رخواسد	7*	·					_																					•			ľ	:	 ى نمبر :	*پالیسے
*Na				Ms./D D Proo		laster,	/Othe	er):	Γ	F		R S	T									М			П	1	F					Δ								
:(_/دیگر	ماستار	ڈاکٹر/	۔ نی ثبوت	ز م/م		<u>;</u> *		L		L'IL		<u>'</u> '																											
	aiden	Nam	ne (N	ls./Dr.,	/Oth	er):				_					1				B 4				1	1 -	1															
				y for fe نام (محدّ				F		R	S								M	ı	D	D	L	E					L	А	5									
(اطلاق	قابل	ے لیے	ِاتْینُ کے ۔As./Dr	ب خو	(صرف				_					1							I	1.	1																
	یگر):	ئٹر/ د	ر مُ/ڈاک	ام (مُحدّ	. کا ن	· *والد		F		К	2		ЦĻ	_	Ļ			Щ	IVI		D	D	L	L			Щ			A	2	<u> </u>	<u> </u>	_	_	_	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
*M				Ms./M م (محتر			her):			F	1	2 5	T						М	I	D	D	L	E									L	А	S	Т				
*Sp	ouse			s./Mrs بریک ح		./Othe	er):			F	П	R S	Т						М	1	D	D	L	Е								L	А	S	Т					
	ر):			ریک د /محتر م		(م			L																															
*Pr	oof o	f ider	ntity	and ad	ldre	ss (Ple	ase n	nentic	n the	e do	cumer	it nun	nber	of the	pro	of sul	omitt	ed)						6.00	< ~		15 :.	15	ا\$:	·< -		1-	٠. ٢		< .		در څاره	< 1.	دی اید	*شناخ
	۱-Pas	sport	t Nur	nber _							B-Vote	er ID c	ard						C-Dr	ivin	g Lice	ense																		
						ب کار ڈ	گا جاد	ی۔ نریہ	<u> </u>	_				ئسنس	گ لا	 ڈرائيون	سی. ا								ارڈ	 ڈی ک	ز آئی	ى۔ ووثا	į.	_								ئ نمبر	سپورٹ	 اے۔ پاہ
	- Nat	tiona	l Pop	ulatio	n Re	gister	lette	r																																
													نبوت^	نے کا ن	بں ہوا	پاس می	. آدهار	- F																بی	ی پرچ	ىٹر ك	ے رجس	دی کے	می آباد	ای۔ قو،
L	Α	N	D	M	A	R	K	ī		ī		ī	ī	ī	ï			ī	ī	ī			С	Т	Т	Υ	7	Т	0		/			v	T	L	L	Α	G	E
D	ī	S	T	R		С	T		Р		I N	7	P	0		T	С	0	D	Ť	E		S	Т	Α	Т	E	/	U	T				D	E	\equiv				
* C	ırren	t add	 Iress	details]																																			
_																																				ات	نفصيلا	ہ کی ا	وده پت	* موج
⊔:	ame	as m	nentio	oned a	bov	e (In si	uch c	ases a	iddre	ess d	etails	as bel	ow n	eed n	ot to	o be p	rovid	ed)				1	٠		. < :	.5.	۔ فار	h 5	٠. ٠		تفصيا	512		امامد		- .h	()		ه بالا <u>ک</u>	منكس
	\-Pas	sport	t Nun	nber _							B-Vote	er ID c	ard						C-Dr	ivin																				سحور
						ب کار ڈ	گا جاد	ی۔ نریہ	ż	_				ئسنس	گ لا	ڈر ائيو نـ	سی۔ ا								ارڈ	ڈی ک		ى۔ ووثا											 سپورٹ	 اے۔ پاہ
	- Nat	tiona	l Pop	ulatio	n Re	gister	lette	r											F-Pro	oof	of po	sses	sion	of A	adhaa	ır^														
					-				1				نبوت^ ──	نے کا ن	بں ہوا	پاس می	. آدهار	- F																بی	ی پرچ	ىثر ك	ے رجس	دی کے	می آباد	ای. قو،
		11		- 11	11	11	11	- 11	11	11	- 11	11	11		11		- []		[]								11	11		11	- 11		- 11	- 11	- 11					
		Ļ		_	Ļ	_ _			_	JĻ	ᆜᆜ	<u> </u>	<u> </u>		Ļ	_ _	Ļ		٦,	ᆜ닏	۲,			_			Ļ		Ļ	Ļ	Ļ	4	ᆜᆜ	بإل			Щ			Щ
L	 A	 N		M]] [A	R	 K																С] 	Y		T	0					[[v[L		A	G	E

*Resident Status: ی حبثیت:	☐ Reside		ربائشي	☐ PIO			PIO		Resident	Countr	У									ائشی ہ	
#Nationality:	سرېس □ Indiar ^{#} قومي	1		☐ Fore	ign Nat	ional کی شہر ی			NRI										٠	انسی ه [N	
*Non-Resident Indian/ Pers mention country code before	on of Indian Origi the number menti	n/ Foreign Nationed)				estionnair	re is red													ils: (F	Pleas
ل: (براہ کرم، درج کیے گئے نمبر Tel. (off)											ile				ریں)	درج ک	ِ لا نمبر	ے کا کو	ں ملک	ِوع مدِ	ے شر
*Email id							((رہائش گاہ	ثيليفون											(آفس)	يفون
Occupation:			Job Title an	ıd nature	of dutie	es:														ل آئى	ای مد
Name of the Organization:						کی نوعیت	مہ داریوں	عېده اور ذ													, :؞ۺ
																				کا نام:	ار ہے۔
*Date of Birth:		YY		ender: ثی ۔ تیس	خاتون	ایف ۔		Female ایم ۔ مرد] T - Tra	:	*جنس							ں:	خ پيدائة	تاريع
*PAN No/ Form 60:			ت	دنی کا ثبون	_	come Prod 	or											_ :60	فارم ([نمبر /	PAN
(*It is mandatory to provide I	PAN No./ Form 60)														ے	لازمی ہ	فر اہمی	6 کی	فارم 0	ا نمبر /	PAN'
*Bank Details:					:	كى تفصيلات	*بینک،														
Account Holder Name:						ر کا نام:	 کھاتہ دار	Name o	of the Ba	nk:										 انام:	بنک ک
Branch Name:						ــــــــــــــــــنام:	 شاخ کا ن	Type of	f Accoun	t:										 کی قس	كاؤنث
Account No:								IFSC Co		 ف ايس س											
بینک اکائونٹ نمبر:	and the below w	ata bafaya ab							ى خود:	ت ایس س	الى ايا										
Type of Assignment (Please	e read the below h	ote, before ch	oosing the c	option):					<u>:</u>	<u>پڑھ لیں)</u>	ے نوٹ	یے گئے	نیچے ہ	ے پہلے	رنے س	نتخب ک	آیشن ه	ه کرم	م (برا	کی قس	تقلى
□ Abadint A		☐ Conditio	nal Assignm	nent																ا منتقل	
☐ Absolute Assignment	كامل منتقلى	L Conditio																	ن		شروط
Note: If the policy is being ass	•	aken from lende	er i.e. Bank/Fi	inancial II															der.		
Note: If the policy is being ass	signed due to loan t: لمور پر تفویض کی جائے	aken from lende	er i.e. Bank/Fi	inancial II															der.		
Note: If the policy is being ass گی. Reason for Assignment /Re	signed due to loan t: لمور پر تفویض کی جائے	aken from lende ل دہندہ کو مشروط ہ	er i.e. Bank/Fi ، تو پالیسی قرض	inancial II		PN یا کسی ا	NB MetI	, ادار ه/ ife.	ینک/مالیاتی	ہے یعنی ب	با رہی ہ	ښ کی ٠		کی وجہ ہ	قرض	ے گئے <u>۔</u>	، سے ا کی وج	س دبند وی ض :	و der. ی قرض <u>ی</u> قر <u>ف</u>	ئر پاليس	ِث: اگ
Note: If the policy is being ass گی. <u>Reason for Assignment /Re</u> ☐ Financial needs/ Loan	igned due to loan t: لور پر تقویض کی جائے :assignment:	aken from lende نبنده کو مشروط م Love & a	er i.e. Bank/Fi ، تو پالیسی قرض پر پالیسی قرض پر پر پ	inancial II خص/اینٹی خص/اینٹی	دوسرے ش	PN ياكسى 	NB MetL	، اداره/ ife. r of Emp	ینک/مالیاتی loyer Em	ہے یعنی ب	باً رہی ہ	نں ک <i>ی ۔</i> tion	سے تقوید	کی وجہ ہ	قرض oan c	بے گئے	، سے ا کی وج by cu	س دېند وي ض ،	و der. ی قرض ا ره تفو ner	ئر پالیس <u>ٹ/دو ب</u>	ِث: اگ مائنمن
Note: If the policy is being ass گی. Reason for Assignment /Re ☐ Financial needs/ Loan ﴿ فَرض ﴿ With Consideration Amo	signed due to loan t: لور پر تفویض کی جائے :asssignment: مالیاتی ضروریات	aken from lende ن دېنده کو مشروط ه Love & a □	er i.e. Bank/Fi ، تو پالیسی قرض پر پالیسی قرض پر پر پ	inancial II خص/اینٹی خص/اینٹی	نوسرے ش محبت و ش	PN ياكسى 	NB MetI.	، اداره/ ife. r of Emp	ینک/مالیاتی loyer Em	ہے یعنی ہ ployee دستبر دار	بارہی ہ condi ط سے	نں کی ۔ tion ذرم شر	ئے تقوید آجر ما	کی وجہ ہ	ِ قَرِضَ . قرض . می	یے گئے <u>۔</u> <u>2:</u> کی ادائی	، سے ا کی وج کی وج فرض قرض	یں دہند، و یض : ustom	der. ی قرض <u>ی</u> قرض ا رہ تفو ارہ تفو مطرف	ئر پالیس <u>ٹ/دو ب</u> ک کے	ِث: اگ سائنمن گاب
Note: If the policy is being ass گری Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan ر فرضہ With Consideration Amo	igned due to loan t: لور پر تقویض کی جائے :assignment: مالیاتی ضروریات مالیاتی ضروریات	aken from lende ن دبنده کر مشر وط ه Love & a □(t	er i.e. Bank/Fi ، تو پالیسی قرض ffection** o be filled if	inancial II خص/اینٹی شفقت**	نوسر _ ش محبت و ش دا needs _ گا)	PN يا كسى، □ Loan is: ' پُر كيا جائر	NB MetI Waive selectec ورث میں	, ادار ه/ .ife r of Emp ا) ناب کی صد	ینگ/مالیاتی loyer Em ی ے کے انتخ	پیعنی ہے ployee دستبردار ت/ قرضہ	یا رہی ہ د صص طسسے سروریاہ	نں کی۔ tion زم شر لیاتی ض	سے تفوید آجر ما	کی وجہ ہ	قرض قرض عی	بے گئے۔ <u>':</u> کی ادائی کر یں)	، سے ا کی وج کی وج فرض قرض ، فر ایم	یں دہند و یض : انسے ا اسے ا	der. ی قرض <u>اره تفو</u> اره تفو مطرف مطرف ی رقم	ئر پالیس <u>ٹ/دو ب</u> ک کو بگی ک	یٹ: اگ سائنمن گاب ع ادائی
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan آفرضہ With Consideration Amo	igned due to loan t: لور پر تفویض کی جائے :asssignment: مالیاتی ضروریات مالیاتی ضروریات اندازی ضروریات اندازی ضروریات مالیاتی ضروریات مالیاتی ضروریات	عken from lende ن دبنده کو مشروط ه Love & a (t	er i.e. Bank/Fi ، تو پالیسی قرض ffection** o be filled if	inancial II خص/اینٹی شفقت**	نوسر _ ش محبت و ش دا needs _ گا)	PN يا كسى، □ Loan is: ' پُر كيا جائر	NB MetI Waive selectec ورث میں	, ادار ه/ .ife r of Emp ا) ناب کی صد	ینگ/مالیاتی loyer Em ی ے کے انتخ	پیعنی ہے ployee دستبردار ت/ قرضہ	یا رہی ہ د صص طسسے سروریاہ	نں کی۔ tion زم شر لیاتی ض	سے تفوید آجر ما	کی وجہ ہ	قرض قرض عی	بے گئے۔ <u>':</u> کی ادائی کر یں)	، سے ا کی وج کی وج فرض قرض ، فر ایم	یں دہند و یض : انسے ا اسے ا	der. ی قرض <u>اره تفو</u> اره تفو مطرف مطرف ی رقم	ئر پالیس <u>ٹ/دو ب</u> ک کو بگی ک	یٹ: اگا ماننمن گاب ع ادائیہ دئی ب
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan فرض With Consideration Amo	igned due to loan t: لور پر تقویض کی جائے :asssignment: مالیاتی ضروریات مالیاتی ضروریات انادی ضروریات مالیاتی ضروریات مالیاتی ضروریات مالیاتی ضروریات مالیاتی ضروریات	aken from lende ر دبنده کو مشروط ه Love & a (t 	er i.e. Bank/Fi ، تو پالیسی قرض ffection** o be filled if Assignor تفویض کننده	inancial li خص/اینٹی نفقت** Financia	بوسر _ے ش محبت و ، اا needs گا) بوقت	PN يا كسى PN يا كسى PN يا كسى PN يا كسى	Waive selectec ورث میں nt is bei	r of Emp الارم r of Emp الله على صد الله على صد	ینک/مالیاتی loyer Em ی ی ی انتخ	بے یعنی ہے وہ اور ployee دستبردار دستبردار کر ضب	با ربی ہ دروریا	نن كى د ttion نزم شر لياتى ض	سے تقوید آجر ماہ (م	کی وجہ د	فرض . فرض . مگی .	<u>بے گئے۔</u> <u>۲:</u> کی ادائی	، سے ا کی وج کی وج کی وج کی وج کر ض فر اہم فر اہم	ن دہندہ ویض : اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ	ر رقم (تنص	ئر پالیس <u>ٹ/دو یہ</u> یک کے یکی کک یکی کی یک	ث: اگاب گاب ع ادائی ینی ب ینی ب
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan أقرضه With Consideration Amo	signed due to loan tr لور پر تفویض کی جائے eassignment: مالیاتی ضروریات bunt ils) bunt bunt da	aken from lende ال دبنده کو مشروط ه Love & a (t ال الله authorized sig	er i.e. Bank/Fi ن تو پالیسی قرض effection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cas	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	PN يا كسى PN يا	Waive selectec ورت میں nt is bei ین قرارداہ e only th	r of Emp d) الاب كى صد الاب كى صد ما at ما ag modif الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	ployee دستبردار ت/ قرضہ دستخط ک	د condi ط سے مروریاد	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	<u></u> گئے۔ <u>۰:</u> کی ادائز کریں)	، سے ا کی وج کی وج قرض قرض فر اہم فر اہم	رس دہندہ stom سے سیدات	ر مدود می از ماهی از ماهی از ماهی از ماهی از از از ماهی از از از ماهی از	ر پالیس <u>ش/دوی</u> بگی ک هی دین مؤر خ	بث: اگاب ماننمن گاب ع ادائی یکی ب یکی ب کمیل م
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan مُوض With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this	signed due to loan tr لور پر تفویض کی جائے eassignment: مالیاتی ضروریات bunt ils) bunt bunt da	aken from lende ال دبنده کو مشروط ه Love & a (t ال الله authorized sig	er i.e. Bank/Fi ن تو پالیسی قرض effection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cas	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	PN یا کسی PN یا کسی لام PN یا کسی P	Waive selectec ورت میں nt is bei ین قرارداہ e only th	r of Emp d) الاب كى صد الاب كى صد ما at ما ag modif الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	ployee دستبردار ت/ قرضہ دستخط ک	د condi ط سے مروریاد	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	<u></u> گئے۔ <u>۰:</u> کی ادائز کریں)	، سے ا کی وج کی وج قرض قرض فر اہم فر اہم	رس دہندہ stom سے سیدات	ر مدود می از ماهی از ماهی از ماهی از ماهی از از از ماهی از از از ماهی از	ر پالیس <u>ش/دوی</u> بگی ک هی دین مؤر خ	بث: اگاب ماننمن گاب ع ادائی یکی ب یکی ب کمیل م
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan مُوض With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this	signed due to loan tr لور پر تفویض کی جائے eassignment: مالیاتی ضروریات bunt ils) bunt bunt da	aken from lende ال دبنده کو مشروط ه Love & a (t ال الله authorized sig	er i.e. Bank/Fi ن تو پالیسی قرض effection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cas	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	PN يا كسى PN يا	Waive selectec ورت میں nt is bei ین قرارداہ e only th	r of Emp d) الاب كى صد الاب كى صد ما at ما ag modif الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	ployee دستبردار ت/ قرضہ دستخط ک	د condi ط سے مروریاد	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	<u></u> گئے۔ <u>۰:</u> کی ادائز کریں)	، سے ا کی وج کی وج قرض قرض فر اہم فر اہم	س دبنده و یض : اسے سے سے سے سے سے سے سے	ر مدود می از ماهی از ماهی از ماهی از ماهی از از از ماهی از از از ماهی از	أر پاليس <u>شُ/دو ي</u> يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك	ث: اگاب گاب گاب گاب گاب نکی ب کاب کمیل ، منتقلی منتقلی هایسی
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan مرضد المنافعة	igned due to loan tr لور پر تقویض کی جائے :asssignment: مالیاتی ضروریات bunt ils) da bunt all by:	aken from lende ال دبنده کو مشروط ه Love & a (t ال الله authorized sig	er i.e. Bank/Fi ن تو پالیسی قرض effection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cas	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	PN يا كسى PN يا	Waive selectec ورت میں nt is bei ین قرارداہ e only th	r of Emp d) الاب كى صد الاب كى صد ما at ما ag modif الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	ployee دستبردار ت/ قرضہ دستخط ک	یا رہی ہا ۔	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	<u></u> گئے۔ <u>۰:</u> کی ادائز کریں)	، سے ا کی وج کی وج قرض قرض فر اہم فر اہم	س دبنده و یض : اسے سے سے سے سے سے سے سے	اره تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی این این این این این این این این این ای	أر پاليس <u>شُ/دو ي</u> يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك	ث: اگاب گاب گاب گاب گاب نکی ب کاب کمیل ، منتقلی منتقلی هایسی
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan آفرضه With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this	isigned due to loan tr الور پر تقویض کی جائے eassignment: and a signal diagrams of the	aken from lende ال دبنده کو مشروط ه Love & a (t ال الله authorized sig	er i.e. Bank/F ، تو پالیسی قرض offection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cas	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	PN يا كسى PN يا	Waive selectec ورت میں nt is bei ین قرارداہ e only th	r of Emp d) الاب كى صد الاب كى صد ما at ما ag modif الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب الاب	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	بے یعنی ہے بعنی ہا ployee دستبر دار کر ضر کے اور ضر کے اور ضر کے اور کی دستخط کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا	یا رہی ہا ۔	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	<u></u> گئے۔ <u>۰:</u> کی ادائز کریں)	، سے ا کی وج کی وج قرض قرض فر اہم فر اہم	س دبنده و یض : اسے سے سے سے ممالات	اره تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی این این این این این این این این این ای	أر پاليس <u>شُ/دو ي</u> يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك	ث: اگاب گاب گاب گاب گاب نکی ب کاب کمیل ، منتقلی منتقلی هایسی
Reason for Assignment /Re Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan ر فرضه With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this Future premiums to be paid بريمينمز كى ادائيگى منجانب Fresh Board Resolution is re **Such assignment is gener **Such assignment is gener **Such assignment is gener **Assignee Details: *Name (Mr./Mrs./Ms./Dr./Mr (Same as ID Proof) :رم/محترم/داگٹر اساشر احیگر) *Maiden Name (Ms./Dr./Oth (Applicable only for femal شاختی شوت کے بریبو) *Maiden Name (Ms./Dr./Oth (Applicable only for femal ن اخین اغر محدّرم/داگٹر اریگر) *Father's Name (Ms./Dr./Oth	igned due to loan tr الور پر تقویض کی جائے iassignment: assignment: all by:	aken from lende د مشروط ه Love & a الله الله الله الله الله الله الله ال	er i.e. Bank/F ، تو پالیسی قرض offection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cas	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	PN یا کسی PN یا کسی PN یا کسی PN یا کسی Substitution Its	Waive selected ورث میں nt is bei ین قرارداہ e only th شریک ح	r of Emp d) الاب كى صد اليہ تر mg modif نى حاليہ تر e father باني، ماں،	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	بے یعنی ہے بعنی ہا ployee دستبر دار کر ضر کے اور ضر کے اور ضر کے اور کی دستخط کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا	یا رہی ہا ۔	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	<u></u> گئے۔ <u>۰:</u> کی ادائز کریں)	، سے ا کی وج کی وج قرض قرض فر اہم فر اہم	س دبنده و یض : اسے سے سے سے ممالات	اره تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی این این این این این این این این این ای	أر پاليس <u>شُ/دو ي</u> يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك	ث: اگاب گاب گاب گاب گاب نکی ب کاب کمیل ، منتقلی منتقلی هایسی
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan / قرضه With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this	isigned due to loan to المواقع المواق	aken from lende د مشروط ه Love & a الله الله الله الله الله الله الله ال	er i.e. Bank/F ، تو پالیسی قرض offection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cas	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	PN يا كسى PN يات اور بالله PN يا كسى PN يات اور بالله PN يات الله PN يات	Waive selected ورث میں nt is bei ین قرارداہ e only th شریک ح	r of Emp sil) الدار م' at الدار كى صد الدار كى صد الدار كى صد الدار كار كار كار كار كار كار كار كار كار ك	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	بے یعنی ہے بعنی ہا ployee دستبر دار کر ضر کے اور ضر کے اور ضر کے اور کی دستخط کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا	یا رہی ہا ۔	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	<u></u> گئے۔ <u>۰:</u> کی ادائز کریں)	، سے ا کی وج کی وج قرض قرض فر اہم فر اہم	س دبنده و یض : اسے سے سے سے ممالات	اره تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی این این این این این این این این این ای	أر پاليس <u>شُ/دو ي</u> يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك يگى ك	ث: اگاب گاب گاب گاب گاب نکی ب کاب کمیل ، منتقلی منتقلی هایسی
Reason for Assignment /Re Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan ر قرضه With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this Future premiums to be paid بربمینمز کی ادائیگی منجانب Fresh Board Resolution is re *Such assignment is gener* *Such assignment is gener* *Maiden Name (Ms./Dr./Oth (Applicable only for femal *Lis نام (محتر مہ/ڈاکٹر /ساسر/ دیگر): *Tather's Name (Ms./Dr./Oth (Applicable only for femal *Lis نام (محتر مہ/ڈاکٹر /ساسر/ *Father's Name (Ms./Dr./Oth (محتر م/ڈاکٹر / دیگر): *Mother's Name (Ms./Dr./Oth *Aid (محتر م/ڈاکٹر / دیگر): *Mother's Name (Ms./Mrs./Dr. *Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. *Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Editable Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Editable Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Tather's Name (Ms./Mrs./Dr. **Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Tather's Name (Ms./Mrs./Dr. **Tather's Name (Ms./Mrs./Dr. **Spouse Name (Ms./Mrs./Dr. **Tather's Name (Ms./Dr./Dr. **Tather's Nam	isigned due to loan to المواتق المور پر تقویض کی جائے المور	aken from lende د مشروط ه Love & a الله الله الله الله الله الله الله ال	er i.e. Bank/F ن تو پالیسی قرض iffection** o be filled if Assignor تفویض کننده natory in cast	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	P یا کسی P	الاهاسالاه	r of Emp الارم r of Emp الارم علي الارم الارم علي الارم الارم الارم الارم	ینک/مالیاتی loyer Em ع ع انتخ سال سال زده بور ڈ ک	بے یعنی ہے بعنی ہا ployee دستبر دار کر ضر کے اور ضر کے اور ضر کے اور کی دستخط کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا	یا رہی ہا ۔	نں کی د ازم شر الیاتی ض لیاتی ض کی جاننا	سے تقوید ما ا آجر ما ا سے (م سط کنندہ	کی وجہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	قرض قرض معد عگی میں مج	بے گئے۔ ین کی ادائی کی ادائی کی ادائی	، سے ا کی وج کی وج قرض فر اہم فر اہم	س دبنده و یض : اسے سے سے سے ممالات	اره تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی ارده تفوی این این این این این این این این این ای	أر پاليس <u>شُ/دو ي</u> يكى كك يكى كك يكى كر يكى يكى كم يكى كم كم يكى كم كم يكى كم يكى كم يكى كم يكى يكى يكى يكى يكى كم يكى	ث: اگاب گاب گاب گاب گاب نکی ب کاب کمیل ، منتقلی منتقلی هایسی
Reason for Assignment /Re Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan المرضية With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this "Fresh Board Resolution is re "Such assignment is gener Assignee Details: *Name (Mr./Mrs./Ms./Dr./Oth (Applicable only for femal is.) عنه الم المداتي الموت كے بوب المال (Applicable only for femal is.) عنه الم المداتي المدات	isigned due to loan to الور پر تقویض کی جائے sassignment: assignment: assignment: all by: bunt da bunt da l by: da laster/Other): es) fillor) es) fillor) fill	Love & a الله الله الله الله الله الله الله ال	er i.e. Bank/Fi ن تو پالیسی قرض iffection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cast	inancial li خص/اینٹی ** Financia , 20 see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	P یا کسی P	الاهاسالاه	r of Emp f of Emp at at at at by a display f of Emp	الیاتی /مالیاتی loyer Em ع کے انتذ اللہ الل	بے یعنی ہے بعنی ہا ployee دستبر دار کر ضر کے اور ضر کے اور ضر کے اور کی دستخط کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا	بیا رہی ہا در	ن کی د اندر مشر لیاتی ض لیاتی خ د د د د اندان ا ا ا ا ا	سے تفوید ما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	قرض قرض المحدد المدين محدد المدين محدد المدين المحدد المدين الم المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين	ان کانے کانے کانے کانے کانے کانے کانے کا	ه سے ادار کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی دوجہ کی دوج	رن دبنده المحالة المح	ر ما میل می از این از از این از از این از از این از	ر پالیس <u>ش'ردو پی</u> کی کی کی کی گئی کی گئی کی شرر خد استان منتقل استان کی ش	یث: اگاب گاب گاب عالمت کاب می ادائی می ادائی بی ادائی بی می ادائی بی می می تقلی از ایسی می تواند از ایسی
Reason for Assignment /Re Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan A fice With Consideration Amo Any other (provide deta Executed on this Future premiums to be paid "Fresh Board Resolution is re "Fresh Board Resolution is re "Fresh Board Resolution is re "Such assignment is gener Assignee Details: *Name (Mr./Mrs./Ms./Dr./Mt (Same as ID Proof) (Same as ID Proof) *Maiden Name (Ms./Dr./Oth (Applicable only for femal is.) نام (محتر م/دًاكثر /دیگر): *Maiden Name (Ms./Dr./Oth (Applicable only for femal is.) نام (محتر م/دًاكثر /دیگر): *Mother's Name (Ms./Dr./Oth *Ather's Name (Ms./Dr./Oth *Mother's Name (Ms./Dr./Oth *Mother's Name (Ms./Mrs./Dr./Oth *Spouse Name (Ms./Mrs./Dr./Oth *Spouse Name (Ms./Mrs./Dr./Oth *Arcy حوات كا نام *Spouse Name (Ms./Mrs./Dr./Dr./Dr./Oth *Arcy - حوات كا نام *Assignee is (please tick one) i. Ji. (* £o. _ ii.) / ii. (* £o. _ ii.) / ii.) / ii. (* £o. _ ii.) / ii. (* £o.	isigned due to loan to المواتد الموات	الم	er i.e. Bank/Fi ن تو پالیسی قرض iffection** o be filled if Assignor ratory in cast relative which S T S T Relative cyperation of the control of t	**فقت ** Financia, 20see condit	نوسرے شام محبت و اللہ al needs کے گا) کے گا	P یا کسی P	الاهاسالاه	r of Emp الارم r of Emp الارم علي الارم الارم علي الارم الارم الارم الارم	الیاتی /مالیاتی	ployee دستبردار در دستبردار قرضر دستبردار قرضر دستبردار قرضر على المستوالية والمستوالية و	condii بیا رہی ہ	ن کی د اندانی شر الیاتی شر الیاتی شر ککی جاندادی ککی جاندادی	سے تفوید ما اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا	کی وجہ ہ ا	قرض	ال کانگیا کے گئے کے ادائی الاطلاع کے کے کے کے کے کے کے کے کے کانگیا کی ادائی کانگیا کی ادائی کانگیا کی ادائی کانگیا کی ادائی کانگیا کی کانگیا کانگیا کی کانگیا کانگیا کی کانگیا کانگیا کی کانگیا کانگیا کی کانگیا کی کانگیا کی کانگیا کی کا	ه سے ا کی وجہ فرض من فراہم کی رشنہ کی رشنہ کی رشنہ	ر ببنده المحادث المحا	ر ما می از از انتخاص از از انتخاص ا	ر پالیس <u>شاردو پی</u> کی کی کی کی گئی کی کی شر خی منتقل الله کی شیع کی شاه کی کی شاه کی کی شاه کی کی گذارد کی شاه کی کی گذارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد کارد ک	یث: اگاب گاب گاب گاب منتقلی منتقلی منتقلی ا
Reason for Assignment /Re Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan A field of the fie	isigned due to loan to المواتد الموات	الم	er i.e. Bank/Fi ه تو پالیسی فرض effection** o be filled if Assignor تفریض کننده natory in cast relative which S T S T Relative ریگولیث شده rofit organiz دیگر	**فقت ** Financia, 20 see condit ch shall r y y	الوسرے شامل needs عالمی شامل cion of a mean ar	P یا کسی Loan is: پُر کیا جائی assignmer ad include بیات اور بج	الاهاسالاه	r of Emp fr of Emp at at at by a display	الیاتی /مالیاتی loyer Em	ployee دستبردار ۲۰۰۰ قرضر در Spouse بی تناس کننده ای تا ای	condided المسلم	ن کی د انزم شر الیاتی ض کی جانند کی جانند الیاتی ض الیاتی ض	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	کی وجہ ه کی وجہ ها اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ	قرض	رے گئے۔ الاد الاد الاد الاد الاد الاد الاد الا	ه سے ا کی وجہ فرض فراہم کی رشنہ کی رشنہ کی رشنہ کی رشنہ	ر ببنده المحادث المحا	اره تفود می از از انتخاص از از انتخاص از انتخاص از انتخاص از از از انتخاص از	ر پالیس می کی کی گر کی شرخت کی کی شرخت کی گر کی شرخت کی گر کی شرخت کی شرخت کی شرخت کی شرخت کی شرخت کی گر کی شرخت کی گر کی شرخت کی گر کی گ	یث: اگاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب ک
Reason for Assignment /Re Financial needs/ Loan المرقب المنافع الم	isigned due to loan to المواتد الموات	الم	er i.e. Bank/Fi المنافقة و باليسى قرض المنافقة و باليسى قرض المنافقة و باليسى قرض كننده Assignor المنافقة و باليس كننده المنافقة و باليس كننده المنافقة و باليس كننده المنافقة و باليس كان المنافقة و باليس كان المنافقة و باليس كان المنافقة و باليس المنافقة و بال	**فقت ** Financia دمانیتی See condit ch shall r بوں گے۔	الوسرے شامل needs علم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال	ال ا	الاهاسود ال	r of Emp ا الدار ه/ r of Emp الدار ه/ r of Emp ا الدار ه/ r of Emp	الیاتی /مالیاتی loyer Em ع ع انتذ ا	ployee دستبردار ۲۰۰۰ قرضر در Spouse بی تناس کننده ای تا ای	بیاربی با ربی ب سے دروریان میں منت میں منت	ن کی د زم شر الیاتی ضائد لیاتی ضائد در مشر الیاتی خاند الیاتی خاند الیاتی الی	سے تقوید ما ما آجر ما ما آجر ما ما کننده کنن	کی وجہ ه اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا	میں مج میں مج گرفت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل	رے گئے۔ ان الاقتحاد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال	ه سے ادار کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی وجہ کی کی وجہ کی وجہ کی کی کار اللہ	رن دبنده الانت: الا	اره تفو المراقب المرا	ر پالیس کی کی گئی کے کی شرو نے اور ریگوان کے اور ریگوان ک	یث: اگاب گاب گاب گاب دانید کاب منتقلی در منتق

 | | | Ш | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | |
 |
|---|---|---|--|---
---|---|--|--|-------------------------------|--
---|---|---|--|--|--|---|--
--|--|---|---|---|--
--|---|--|---|---|---|--|---|---
--|--|---|--|
| LA | N | D | М | A | R
 | K | | Щ | Щ | | Щ
 | | | Щ | | | | | Щ | Щ | С |
 | L | Υ | | I | 0 | W | N | <u> </u> | V |
 | | L | A | G |] E
 |
| DI | S | Т | R | I | С
 | Т | | Р | -1 | N | /
 | Р | 0 | S | Т | С | 0 | D | Е | | S | Т
 | Α | Т | E | / | U | Т | C | 0 | D | E
 | | | | |
 |
* Currer	t addr	ess d	etails						
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | N. | in c | 7 | *
 |
| ☐ Same | as me | ntio | ned al | bove | (In su
 | ch ca | ises ac | ddres | s deta | ails as | s belo
 | w ne | ed no | ot to b | e pr | ovide | ed) | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | سيدن | کی تفص | ِدہ پنہ | "موجو
 |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | |) پته کی ن | |
 | | | | | مذكوره
 |
☐ A-Pa	sport								
 | |
ڈی۔ نر | | | |
 | | | | | | | C-Driv | | | |
 | | | | | | D-NR | EGA | A Job C | ard _ |
 | | | | b |
 |
E- Na	tional								
 | | | | | |
 | | | | | | | -Proc | | | |
 | | | ىر سى | <i>ی</i> ۔ رز | = | | | | |
 | | | ، عبر | حپور_ | رح. پ
 |
		- 1		-0					
 | | | | | |
 | | | | | | | ونے ک | | | |
 | | | | | | | | | | پرچی
 | ٹر کی | رجسا | ی کے | می آباد | ای۔ قوہ
 |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | |
 |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | |
 |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | |
 |
| LA | | D | M | A | R
 | K | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | |] | | | 0 |] VV | N | ٣, | |
 | | | I A | G |
 |
| DI | S | Τ | R | | C
 | Ι | | Р | | N | /
 | Р | 0 | S | Т | С | 0 | D | Е | | S |
 | A | | E | / | U | | | 0 | D | E
 | | | | |
 |
| *Reside | nt Stat | us: | | | 41 de
 | | Resi | dent | | | 3 -49
 | | | □ PI | 0 | | | | DIO | | | Resid
 | dent | Cour | try | | | | | | |
 | | | ~1 | 2-11 |
 |
| *#Nation | ality: | | بىي: | شی حب | ≁ر ہاد
 | | Indi | an | | | ائشى
 | رہ | | □ Fc | reig | n Na | tiona | | PIO | | | NRI
 | | | | | | | | | |
 | | | ىلك | ائشی د | رہ
 |
| | , | | | میت: | *# قو،
 | | | | | | رتى
 | بها | | | Ü | | | کی ش | غيرما | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | NI | RI
 |
| #Non-Remention | | | | |
 | | | | | gn N | ation
 | al cu | ım F | ATCA, | / CR | S Qu | estio | nnaire | e is r | equir | ed t | o be
 | fille | d if N | latio | nality | is s | electe | ed c | other | than | India
 | n Cor | ntact | Deta | ils: (F | 'lease
 |
| mention
گئے نمبر | | , | | |
 | | | | , | نے ک | ئے کر
 | هر جا | ر تو ب | جاتا بــ | ب کیا ۔ | منتخب | ر کو | کسی ا | علاو ه | ہار تے | ىت ب | ص قوہ
 | / شخد | ہار تے، | شی ب | یر ریا | کے غ | النامہ ، | I سو | FATC. | A / C | RS ~
 | یشنل س | ار ن نی | نے / فا | ے نکا | #بهار تـ
 |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | کریں) | ر درج
 | وال نمبر | ، کا کر | بں ملک | -
_وع م <u>ا</u> | کے شر
 |
| Tel. (off) | | | | |
 | | | | | | T∈
:
 | el. (Re | es) | | | | | | | (a)\$. | ر بائش | نفه ت (
 | -
1 ਹੈ | | | | | | | | |
 | | | | (آفید) | الدفون
 |
| *Email i | | | | |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | (0 | J-7J | , 0, .
 | | | | | | | | | |
 | | | | (0-) |
 |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | ڈی | ل آئی | *ای می
 |
| *Date of | Birth: | | D [| 0 1 | /I IV
 | i Y | Y | Y | Υ | | | | | | |
 | | *Ge | nder: | |] м - | Male | | | F - Fe | male |
 | | l T - 1 | rans | gende | er | | | | |
 | | | | |
 |
| | | | | |
 | | | | | _ |
 | ، جنس | تيسري | ثی ۔ ا | | تون | ب ـ خا | اية | | د | م ـ مر | ايـ
 | | | | :س | *جن | | | | |
 | | | : ش | خ پیدائ | * تاريخ
 |
Occupat	on: _								
 | | | | | |
 | | | d natu | | | _ | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | |
 |
| Name of | the O | rgani | zatio | ١٠ |
 | | | | | |
 | | | | | | و عيت: | ے کی د | داريور | ر دمہ | ىېدە او | c
 | | | | | | | | | |
 | | | | | پیسہ: _
 |
		. 60							
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | : | کا نام: | ادارے
 |
*PAN No	/ Forn	า 60:							
 | | | | | |
 | | | | | | come | Proof | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | | | |
 |
(*It is m									
 | . / [| | | | |
 | | ِث: | ے کا ثبو | *امدنے | : | | | | | |
 | | | | | | | | | |
 | | _ :60 | / فارم (| I نمبر ٰ | 'AN*
 |
(10 15 111	maatt	,, to	prov	iuc i i					
 | ,,, , , | ,,,,,, | -1 | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | , |
 | | | | |
 |
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | ں ہے) | ، لازمے
 | فراہمي | 6 کی | ، فارم 0 | F نمبر/ | PAN*)
 |
*Bank D	etails:								
 | | | | | |
 | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | ں ہے) | ، لازم
 | فراہمی | 6 کی | , فارم 0 | ا نمبر / | PAN*)
 |
*Bank D	etails:								
 | | | | | |
 | | | | | : | صيلات | ، کی تف | *بینک | | |
 | | | | | | | | | ں ہے) | ، لازم
 | فراہمے | 6 کی | ، فارم 0 | F نمبر / | PAN*)
 |
| *Bank D | | | me: _ | |
 | | | | | |
 | | | | | : | | | | | ame | of th
 | e Baı | nk: _ | | | | | | | |
 | | | | |
 |
Account	Holde 	r Na							
 | | | | | |
 | | | | | | | ، کی تف

ار کا ن | | | - |
 | | | | | | | | | |
 | | | | | PAN*)
-
بینک ک
 |
	Holde 	r Na							
 | | | | | |
 | | | | | | |
ار کا ن |
کهاتہ د | | - |
 | | | | | | | | | |
 | | | |
کا نام: |
 |
| AccountBranch I | Holde
lame: | r Na | | |
 | | | | | |
 | | | | | | |
ار کا ن | | Ty | ype c | of Acc
 | | | | | | | | | |
 | | | |
کا نام: | '
-
بینک ک
 |
| Account Branch I | Holde
lame: | r Na | | |
 | | | | | |
 | | | | | | |
ار کا ن |
کهاتہ د | Ty | ype c | of Acc
 | | :: | | | | | | | |
 | | | |
کا نام: | '
-
بینک ک
 |
| Account Branch I | Holde

lame:

No:
ائونٹ نا | r Na
 |
 | |
 | | | | | |
 | | | | | | ام: | .ار كا نام: _ | ــــــ
کهاتہ د
ـــــــ
شاخ کا | T <u>y</u> | -
ype o | of Acc
 | count | :: | | | | | | | |
 | | | |
کا نام: | '
-
بینک ک
 |
| Account

Branch I

Account | Holde

lame:

No:
ائونٹ نا | r Na
 |
 | |
 | | | | | |
 | | | | | | ام: | .ار كا نام: _ | ــــــ
کهاتہ د
ـــــــ
شاخ کا | Ty
IF
adhaa | -
ype o
SSC C | of Acc
———
ode:
 | count

ی کوڈ | ::
ایس س | |
 | | | | | |
 | | | | کا نام:
کی قس | ۔
بینک کا
اکاؤنٹ
 |
| Account

Branch I

Account | Holde
اame:
No:
ائونٹ نا | r Na

یک اک | بين
n of A | adhaa | ar incl
 | udes | Aadh | | | |
 | | | | | | ام: | .ار كا نام: _ | ــــــ
کهاتہ د
ـــــــ
شاخ کا | Ty
IF
adhaa | -
ype o
SSC C | of Acc
———
ode:
 | count

ی کوڈ | ::
ایس س | |
 | | | | | |
 | | | | کا نام:
کی قس | ۔
بینک کا
اکاؤنٹ
 |
| Account المحتودة الم | Holde
اame:
No:
ائونٹ نا | r Na

یک اک | بين
n of A | adhaa | ar incl | udes | Aadh | | | | | | | | | | ام: | .ار كا نام: _ | ــــــ
کهاتہ د
ـــــــ
شاخ کا | Ty
IF
adhaa | -
ype o
SSC C | of Acc
———
ode: | count

ی کوڈ | ::
ایس س | |
 | | | | | بار کار ڈ | میں آدھ | ثبوت ه | ، کے | | كا نام: | ر
بینک کا
اکاؤنٹ
*آدھار |
| Account المحتودة الم | Holde
المونث المائية
المونث المونث المائية
المونث المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائية
المائي المائي المائي
المائي
المائي المائي
المائي المائي المائي
المائي المائي
المائي المائي
المائي المائي المائي المائي المائي المائي
الماتي المائي الماة
الماة
الماة
المائي المائي المائي المائي المائي الماني المائي
الماي | r Na
ک اک
ession
with | بين
n of A
Assig | adhaa
nor/ | ar incl | udes | Aadh | aar C | | | ar let | tter, e | -Aad | | m-Aa |
adhaa | ام: | ار کا نام:انام: | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | IF
adhaa
پن
use | -
ype o
SSC C | of Acc

ode:
:
أدهار ث | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ايس سا | ں ایف
اور م |
 | ىار ، ايد
tter | ای آدھ | خط، | | ىار كارد
<u>شتہ</u> | میں آدھ | ثبوت ه کمے ، | ے کے | سم:
سم:
يين پونــــ | كا نام: | ر
بینک کا
اکاؤنٹ
*آدھار |
| Account
Branch I
Account;
پر:
*Proof o | Holde
العربة
الورث ند
f posse
ship v | r Na
ک اک
ession
with | بين
n of A
Assig
Meml | adhaa
nor/
ber:
کا قرار | ar incl
 | udes | Aadh
r
Fath | aar C | ard, A | adha | ar let
 | | -Aad | haar, | m-Aa | الده بالده | ام:
arr and | ار کا نام:انام: | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | IF
adhaa
پن
use | -
ype o
SSC C | of Acc

 | ی کوڈڈ
میا گیا اَ اَ | ::
ایس سا | ر ایف
اور م | آئر
ہ۔آدھار | مار ، ايم | ای آدھ | | ُّ، آدهار ، | بار کارڈ | میں آدھ
 | ثبوت ه کمے ، | ے کے | سم:
سم:
يين پونــــ | كا نام: | ر
بینک کا
اکاؤنٹ
*آدھار
 |
| Account Branch I در المحافظة | Holde
العربة
الورث ند
f posse
ship v | r Na
ک اک
ession
with
mily
ن فر د | بين
n of A
Assig
Meml | adhaa
nor/
ber:
کا قرر | ar incl
Trans | udes | Aadh | aar C | ard, A | adha | ar let | الدر الدر الدر الدر الدر الدر الدر الدر | -Aad | haar, | m-Aa | الده بالده | ام: | ار کا نام:انام: | کهاتہ د
 | IF
IF
یں
یں
use
شرپ | -
ype o
SSC C | of Acc
 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ::
ایس سا
اسک ک | ر ایف
اور م
DDrrov | آئر
ہ۔آدھار | مار، اید
tter
بثنی | ای آدھ | | اً، آدهار ، | بار کارڈ | میں آدھ | ثبوت ه کمے ، | ے کے | سم:
سم:
يين پونــــ | كا نام: | ر
بینک کا
اکاؤنٹ
*آدھار |
| Account
Branch I
Account;
پر:
*Proof o | Holde
العربة
الورث ند
f posse
ship v | r Na
ک اک
ession
with
mily
ن فر د | بينين
n of A
Assig
Meml
يب تري
Entity | adhaa
nor/
ber:
کا قرر | ar incl
Trans
 | udes | Aadh
r
Fath | aaar Co | ard, A | adha | aar let
 | الدر الدر الدر الدر الدر الدر الدر الدر | | haar, | m-Aa
othe | adhaa
الده
Meml | ام:
arr and
g
ooer oi | ار کا نا
انام:
mask | کهاتہ د
کهاتہ د
شاخ کا
شاخ کا
کب حیا
کب حیا | IF
IF
یں
یں
use
شرپ | -
ype o
SSC C | of Acc

 | ی کوڈڈ
میا گیا اَ اَ | ::
ایس سا
اسک ک | ر ایف
اور م
DDrrov | آئو
ادھار ا
augh | مار، اید
tter
بثنی | ای آدھ | | ُّ، آدهار ، | بار کارڈ | میں آدھ
 | ثبوت ه کمے ، | ے کے | سم:
سم:
يين پونــــ | كا نام: | ۔
بینک کا
اکاؤنٹ
*آدھار
 |
| Account
Branch I
Account
*Proof o | Holde
 | r Na
ک اک
ession
with
with
ان فر د
اره: | بينين
n of A
Assig
Meml
يب تري
Entity | adhaa
nor/
ber:
کا قرر | ar incl
Trans
 | udes | Aadh Fath Emp | aaar Co | aard, A | adha
ploy | aar let
 | tter, e والأ | | haar, Mulling | m-Aa
oothe | adhaa
r
رالده
Meml | ام:
ام:
و و و و و و و و و و و و و و و و و | ار کا نام: | کهاتم د د که د د که د که د که د که د که د که | الة
الق
الق
القري
الله
القري
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الله
الل | -
ype o
SSC C | ode: :
ادهار ش
 | عی کوڈڈ
می کوڈڈ
کیا گیا ا | ::
ابیک ک
فاد الاستان الاستان الاستان کا | ں ایف اور م
اور م
DDrrow | ا آئر
مادهار
augh
ver
قم فر | ىار، ايد
ter
يثي
رض/ر | ای آدھ | | . أدهار | بار کارڈ | میں آدھ
 | ثبوت ه کمے ، | ے کے | سم:
سم:
يين پونــــ | كا نام: | ۔
بینک کا
اکاؤنٹ
*آدھار
 |
| Account
Branch I
Account;
پر:
*Proof o | Holde
 | r Naک اک اک افخانده | يينين
n of A
Assig
Meml
پيب تر ي
پيب تر ي
ونی ادان | adhaa
hoor/
کا قرر
کا قرر
نار | Trans فيملى
 | udes | Aadh
r
Fath | aaar Co | ard, A | adha
ploy
رم | اد
اد
و ee
و ر / ملاز
 | وال
آج | | hhaar, M | m-Aa
oothe | adhaa
الده
Memh | ام:
و و و و و و و و و و و و و و و و و | ار کا نام: _
انام: _
mask
ت
HUF کا Pers | کهاتہ د د
شاخ کا
شاخ کا
کب حیا
کب حیا
JF /H | Ty
IF
adhaa
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن | -
ype o
SSC C | ode: :
ادهار ش
 | عی کوڈڈ
می کوڈڈ
کیا گیا ا | ::
ابیک ک
فاد الاستان الاستان الاستان کا | ں ایف اور م
اور م
DDrrow | ا آئر
ادهار
augh
ver
قم فر | ىار، ايد
ter
يثي
رض/ر | ای آدھ | | . أدهار | بار کارڈ | میں آدھ
 | ثبوت ه کمے ، | ے کے ۔ | سم:يں ہونے | كا نام: كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كان مى كان كان مى كان | ۔
ایکاؤنٹ
*آدھار
م <mark>نتقل ک</mark>
سوسائڈ
 |
| Account
Branch I
Account
*Proof o | Holde
 | r Naک اک اک اک ession with mily ازه: | بينين
n of A
Assig
Meml
يب تري
Entity | adhaa
hoor/
کا قرر
کا قرر
نار | Trans فيملى
 | udes | Aadh Fath Emp | aar Co | ard, A | adha
ploy
رم | aar let
الا
ee
ر/ملازر
 | وال
آج | | haar, Mulling | m-Aa othe | adhaa
الده
Memh | ام:
و و و و و و و و و و و و و و و و و | ار کا نام: | کهاتہ د د
شاخ کا
شاخ کا
کب حیا
کب حیا
JF /H | Ty
IF
adhaa
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن
پن | -
ype o
SSC C | ode: :
ادهار ش
 | عی کوڈڈ
می کوڈڈ
کیا گیا ا | ::
ابیک ک
فاد الاستان الاستان الاستان کا | ں ایف اور م
اور م
DDrrow | ا آئر
ادهار
augh
ver
قم فر | ىار، ايد
ter
يثي
رض/ر | ای آدھ | | . أدهار | بار کارڈ | میں آدھ
 | ثبوت ه کمے ، | ے کے ۔ | سم:
سم:
يين پونــــ | كا نام: كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كان مى كان كان مى كان | ۔
ایکاؤنٹ
*آدھار
م <mark>نتقل ک</mark>
سوسائڈ
 |
| Account
Branch I
Account
*Proof o | Holde
 | r Naک اک اک اک ession with mily ازه: | يينين
n of A
Assig
Meml
پيب تر ي
پيب تر ي
ونی ادان | adhaa
hoor/
کا قرر
کا قرر
نار | Trans فيملى
 | udes | Aadh Fath Emp Trus | aar Co | ard, A | adha
ploy
رم | اد
اد
و ee
و ر / ملاز
 | واا
آج
تر
تر | | haar, M- HU Add | m-Aa othe | adhaa
الده
Memh | ام:
و و و و و و و و و و و و و و و و و | ار کا نام: _
انام: _
mask
ت
HUF کا Pers | کهاتہ د د
شاخ کا
شاخ کا
کب حیا
کب حیا
JF /H | IF
IF
use
شري
شري
UF | -
ype o
SSC C | ode: :
ادهار ش
 | عی کوڈڈ
می کوڈڈ
کیا گیا ا | ::
ابیک ک
فاد الاستان الاستان الاستان کا | ں ایف اور م
اور م
DDrrow | ا آئر
ادهار
augh
ver
قم فر | ىار، ايد
ter
يثي
رض/ر | ای آدھ | | . أدهار | بار کارڈ | میں آدھ
 | ثبوت ه کمے ، | ے کے ۔ | سم:يں ہونے | كا نام: كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كان مى كان كان مى كان | ۔
بینک ک
اکاؤنٹ
*آدھار
منتقل ک
دیگر _
سوسانڈر
 |
| Account Branch I Account : אָני *Proof o | Holde

المونث ند
f posse
ship v
د te Fai
: :
: : | r Na | بين
بين
Assig
Memi
پيب تر پ
پيب تر پ
ونی ادا | adhaa
hoor/
کا قرر
کا قرر
نار | Trans فيملى
 | udes | Aadh Fath Emp Trus | aar Co | ard, A | adha
ploy
رم | اد ar let
ر / ملار
ست
 | واا
آج
ت ^ا ر | | haar, M- HU Add | m-Aa othe | adhaa
الده
Memh | ام:
و و و و و و و و و و و و و و و و و | mask ار کا نام: | کهاتہ د
شاخ کا
شاخ کا
Spon
کب حیال
JF /H | IF
IF
use
شري
شري
UF | -
ype o
SSC C | ode: :
ادهار ش
 | عی کوڈڈ
می کوڈڈ
کیا گیا ا | ::
ابیک ک
فاد الاستان الاستان الاستان کا | ں ایف اور م
اور م
DDrrow | ا آئر
ادهار
augh
ver
قم فر | ىار، ايد
ter
يثي
رض/ر | ای آدھ | | . أدهار | بار کارڈ | میں آدھ
 | ثبوت ه کمے ، | ے کے ۔ | سم:يں ہونے | كا نام: كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كى قد كان مى كان كان مى كان | ۔
بینک ک
اکاؤنٹ
*آدھار
منتقل ک
دیگر _
سوسانڈر
 |
Account Branch I Account *Proof o	Holde المونث ند f posse ship v د te Fai : : : :	r Na	بين بين Assig Memi پيب تر پ پيب تر پ ونی ادا	adhaa hoor/ کا قرر کا قرر نار	Trans فيملى	udes	Aadh Fath Emp Trus	aar Co	ard, A	adha ploy رم	اد ar let ر / ملار ست	واا آج ت ^ا ر		haar, M- HU Add	m-Aa othe	adhaa الده Memh	ام: و و و و و و و و و و و و و و و و و	mask ار کا نام:	کهاتہ د شاخ کا شاخ کا Spon کب حیال JF /H	IF IF use شري شري UF	- ype o SSC C	ode: : ادهار ش	عی کوڈڈ می کوڈڈ کیا گیا ا	:: ابیک ک فاد الاستان الاستان الاستان کا	ں ایف اور م اور م DDrrow	ا آئر ادهار augh ver قم فر	ىار، ايد ter يثي رض/ر	ای آدھ		. أدهار	بار کارڈ	میں آدھ	ثبوت ه کمے ،	ے کے ۔	سم:يں ہونے تفویض کو یض SP /	ا نام: كى قد كى قد پاس ما كانده/ كى قد كى قد كانده كا	۔ بینک ک اکاؤنٹ *آدھار منتقل ک دیگر _ سوسانڈر
Account Branch I Account :) *Proof o	Holde 	r Na	بیند با n of A Assig Meml پیب تر پ ونی ادا ونی ادا مید ب	adhaa nor/ ber: کا قرب کا قرب نتقل البل	Trans فيملي فيماني عامانيان	sfero	Aadh Fath Emp Trus PMI	aaar Co	r/ Em	adha ploy د ع کا ملا	ee ee PML	والألف و الألف الما الما الما الما الما الما الما ال	Aad	haar, HU Other No	m-Aa othe JF/ N s	r Spe (S:	ام: و و goer of رکن ecifiec انرد (P)	mask الركانا انام: ت FHUF كا	کهاتہ د شاخ کا خود عول کا کی حیال کی حیال کی میں کی نہیں کی نہیں	IF IF نن use شرب شرب شرب کوئو کوئو	- ype c SSC C	صادمار شادمار ش	ی کوڈ ٹیا گیا آ پیٹا Lende	:: ایس س که eer/ Be ه	ر ایف اور م D □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	augh ver قَم فر المارية قَم فر bloye	بار ، اید tter رض/ر و e/ Ac	ای آده بیب گزا dvisor	() () () () () () () () () () () () () (Others Soc	ار کار ڈ <u>شتہ</u> Giety:	سِي آدھ ساتھ ر	ئبوت ہ کے ،	، کے ، کندہ ، کنندہ ، ک	یں ہونے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔	کا نام: کی قد پاس ما کی قد کی قد کی قد کی قد کی قد کننده/ کا اعاد مشیر / کا اعاد bbe to	بینک ک ا اکاؤنث *آدهار منتقل کا دیگر مدیگر _ مدیگر _ مدیگر _ مدیگر _ مدیگر _ مدازم/
Account Branch I Account *Proof of Relation Instituti Is the as Notice f I/We [request	Holde المرتث المراتث المرتث المرتث ا	r Na	بینین ا Assig Meml پیب کر پیب ونی ادادی ونی در ب	adhaa nor/ ber: كا قر كا قر كا قرا يطہ قاتا يقل البيا ame	Trans فيملى فيملى فيملى كيا مندور	udes sfero	Aadh Fath Emp Trus PMI PNB	aaar Co	ard, A Arr/ Em	adha adha ploy	ee epy PML	والله والله الم	-Aad	haar, HU Add Note the property of the prope	m-Aa othe JF/ N Iviso	r Spe (S:	ام: و و goer of رکن ecifiec انرد (P)	mask الركانا انام: ت FHUF كا HIل كا Pers	Spoor (S کیاتہ د کی حیال کی حیال کی حیال کی میں کی میں کی میں	IF I	 ype c SSC C	ode: الدهار الله الدهار الله الدهار الله الله الله الله الله الله الله ا	ی کوڈ ٹیا گیا آ Soon بیٹا Lende	ايس ساك دَ السك دَ الس	اور م اور م Drrov بم کنند f Emp	augh پـدَدهار المار augh يقم فرا	tter رض/ر بثي e/ Ac	ای آده بیب گرا dvisor	() () () () () () () () () () () () () (ان ادهار کرد اد	ار کار ڈ <u>شتہ</u> Siety:	سين آده ساته ر	ہ کے ، ہ کے ، و کے ،	ے کے ۔ <mark>، کنندہ ، کا اللہ ، کا کہ ، کا اللہ ، کا کہ ، کا کہ</mark>	یں ہونے تفویض SP / کا	کا نام: کی قد کی قد پاس ما کی قد کی قد کی قد کننده/ کا اعام کا کا اعام کا اعام کا اعام کا اعام کا اعام کا اعام کا کا اعام کا اعام کا اعام کا	بینک ک ا اکاؤنث *آدهار منتقل کا دیگر مدیگر _ مدیگر _ ملازم/ ملازم/ o this
Account Branch I Account :) *Proof o	Holde 	r Na	ا بینند بین ادام Assig Meml پیب کریں دونی ادام ونی ادام میں ہے۔	adhaa nor/ ber: كا قر كا قر كا قرا يطہ قاتا عصلہ قاتا عصلہ قاتا عصلہ قاتا	Trans فيملى فيملى فيملى كيا مندور	udes sfero	Aadh Fath Emp Trus PMI PNB	aaar Co	ard, A Arr/ Em	adha adha ploy	ee epy PML	والله والله الم	-Aad	haar, HU Add Note the property of the prope	m-Aa othe JF/ N Iviso	r Spe (S:	ام: و و goer of رکن ecifiec انرد (P)	mask الركانا انام: ت FHUF كا HIل كا Pers	Spoor (S کیاتہ د کی حیال کی حیال کی حیال کی میں کی میں کی میں	IF I	 ype c SSC C	ode: الدهار الله الدهار الله الدهار الله الله الله الله الله الله الله ا	ی کوڈ ٹیا گیا آ Soon بیٹا Lende	ايس ساك دَ السك دَ الس	اور م اور م Drrov بم کنند f Emp	augh پـدَدهار المار augh يقم فرا	tter رض/ر بثي e/ Ac	ای آده بیب گرا dvisor	خط، (C الاحداث) (SF	ان ادهار کرد اد	ار کار ڈ <u>شتہ</u> Siety:	سين آده ساته ر	ہ کے ، ہ کے ، و کے ،	ے کے ۔ <mark>، کنندہ ، کا اللہ ، کا کہ ، کا اللہ ، کا کہ ، کا کہ</mark>	یں ہونے تفویض SP / کا	کا نام: کی قد کی قد پاس ما کی قد کی قد کی قد کننده/ کا اعام کا کا اعام کا اعام کا اعام کا اعام کا اعام کا اعام کا کا اعام کا اعام کا اعام کا	۔ بینک ک ۔ الکاؤنٹ *ادھار *ادھار منتقل کا منتقل کا منتقل کا میں منتقل کا مادزم/ مادزم/ مادزم/ کا دور دیگر ۔ مادزم/ کا دور کا دور کا دیگر ۔ مادزم کا دور کا
Account Branch I Account : *Proof of Relation Instituti Instituti Is the as Notice f I/We (request arising of the notice for the notice	Holde 	r Na محاد المحاد المحا	بینین است. Assig Meml پیب ترین پیب ترین ونی ادادان پیب میر پیب میر پی	adhaa hoor/ کا قرر کا قرر کا قرار نازیم مطم قاتا مطم قاتا مطم قاتا مطم قاتا	Trans فيملى فيملى فيملى عداد المحادث فيملى المحادث	udes	Aadh Fath Emp Trus PML PNB	aaar Conner on the state of the	r/ Em ploye	adha ployy و عاملا	الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا	والا أج تر II BB	-Aad	haar, HU Add Note the content of	m-Aa othe JF/ N s lviso one g readance conta	r Spe (S:	ام: goor of رکن ccifiec P) نزد (d und	mask الركانات النام: تا النام:	يدول Acad Acad Acad Acad Acad Acad Acad Acad	IF	ــ - ype c SSC C r r r politic re yo	ode: الدهار شا	عی کوڈ ٹیا گیا آ Soon بیٹا Lende	ایس سک ک سک ک ک فات الله الله الله الله الله الله الله ال	اور م اور م Dorrov بم کننن f Emp	augh پ-آدهار قم فر قم فر فم فر tions,	الر، ايد tter رض/ر ee/ Aco	ای آده پیپ dvisor ructic aall be the :	(Cons/e so	ان ادهار مار کار ادهار کار ادهار کار ادهار کار کار کار کار کار کار کار کار کار ک	شتہ مار کارڈ شتہ sciety	سي آده ساته ر sible s per	مثبوت ه کے ، ه کے ، g tho for a	ی کے ارشتر sse ap	یں ہونے تفویض SP) کا pplica e cons	ا نام: ا کی قد کی قد کی که	۔ بیبنک ک اکاؤنٹ *آدھار دیگر _ سوسائڈ دیگر _ منتقلی ملازم/ ملازم/
Account Branch I Account *Proof of Relation Instituti Is the as Notice f I/We [request arising of	Holde 	r Na محاد المحاد المحا	بینین است. Assig Meml پیب ترین پیب ترین ونی ادادان پیب میر پیب میر پی	adhaa hoor/ کا قرر کا قرار کا قرار نتقل الیا مطہ قانا مطہ قانا نتقل الیا نتقل الیا نتقل الیا نتقل الیا نتقل الیا نتقل الیا	ar incl فيملى باضاب عدد كيا مذ	udes sifero المالية sifero sit	Aadh Fath Emp Trus PML PNB	aaar Co ner bloyei st LI Em eques orrec	ard, A r/ Em ploye رزم	adha ployy و) hill be ncon	المان كو ال	والا آج آج II BB	Aadl ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	haar, المام	m-Aa othe UF/ N s lviso one g rea dance conta	r الله الله الله الله الله الله الله الل	ام: ام: و و oer of رکن ccifiec ابرد (P) پر لاگا	mask mask ت ا الله : T ا الله الله الله الله الله الله الله ا	Spoon (S کیاتہ د کب حیال کب حیال کب حیال کب حیال کب دی نہیں کب دیال کب دی نہیں کب دیال کب دیال ک دیا ک دیال ک دیا ک دیال ک دیال ک دیال ک دیال ک دیا ک دیا ک دیال ک دیال ک دیا ک دیال ک	IF	yype c	ode: : : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	عی کوڈ گیا	:: ایس س فیک ک فی فات الاس الاس الاس الاس الاس الاس الاس ال	اور م D D Dorrrow أبم كنناه f Emp	augh ver يقم فر يقم فر tions, d that e assi	الر، العد tter يثي e/ Acc e/ Acc	ای آدھ بید قر dvisor ructic tall be the :	خط، کons// SFF	ان ادهار مار کار ادهار کار ادهار کار ادهار کار کار کار کار کار کار کار کار کار ک	الر کارڈ شتہ ciety spon: icy as ان کرتا	سیں آدھ ساتھ ر	و tho for a the d	ر گننده	یں ہونے <u>تفویض</u> SP کا کا SP کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے	کا نام: کی قد کی قد کی اس می فی کی قد کی قد کی قد کی قد کا کا کا کا کا اعال مشیر / کی فی کا اعال مشیر / کی کا اعال کی کا اعال کی کا اعال کی کا اعال کا اعال کی کا اعال کا اعال کی کا اعال کا	۔ اکاؤنٹ *آدھار سوسائٹ <mark> ک</mark> دیگر سوسائٹ مملازم/ ملازم/ بین۔ موں/ہم ،
Account Branch I Account : *Proof of Relation Instituti Instituti Is the as Notice f I/We (request arising of the notice for the notice	Holde 	r Na	بینی ادام Assig Meml سبب تری بیت تری ونی ادام سرد سام است سام اسام است سام است سام است سام است سام است سام است سام است سام است سام است سام اس است سام است سام است سام است سام اسام اس	adhaa hoor/ کا قریر کا قریر کا قریر نام کا قطہ قات البیا معادت بر مدات بر کا کے کا مدات بر	ar incl فیملی باضای کیا مند کیا مند مام معا	udes sifero الله الله الله الله الله الله الله الل	Aadh Fath Emp Trus PML PNB	aar Co ner bloyer st .I Em ورود المالية	ard, A ard, A r/ Em ployee زم	adha ployy و الات الات الات الات	ee ereby procenpleto procepleto	والا أج أج IB IB IB و cont essec و و ضو و ضو میں درخم	Aadla-Aadla-Aadla	haar, المام	m-Aa othe UF/ N s	r الله Alembir spee (Si	و و و و و و و و و و و و و و و و و و و	mask mask ت ا الله : T ا الله الله الله الله الله الله الله ا	Spoon (S کیاتہ د کب حیال کب حیال کب حیال کب حیال کب دی نہیں کب دیال کب دی نہیں کب دیال کب دیال ک دیا ک دیال ک دیا ک دیال ک دیال ک دیال ک دیال ک دیا ک دیا ک دیال ک دیال ک دیا ک دیال ک	IF	yype c	ode: : : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	عی کوڈ کیا گیا آ پیا گیا آ پیٹا Lende Relat rms : پالیس پالیس پالیس پالیس	:: ایس سک سک ک هم فالا الا الا ک نا آپ ک	اور م ایف اور م اور م اور م اور م اور م کنند و Ondir y and have	augh ver قم فر bloye tions, d thas assi	الر ، ايد tter رض/ر و ض/ر د inst t I sh gned	ای آده بیب گر اdvisor د all be د the :	خط، کار / SF کار / SF	ان ادهار Others Social Social Annual Annu	یار کارڈ یشتہ ciety spon: ادی طو ادی طو	ساته ر ساته ر sible s per اور قبو نی انفرا	و د ار g tho for a the d	ی کے ۔ ارشتہ see ap	یں ہونے <u>تفویض</u> کے الکام کے الکام کے SP کا	ا نام: الله الله الله الله الله الله الله الل	۔ بیبنک ک اکاؤنٹ *آدھار دیگر _ سوسائڈ دیگر _ ملازم/ ملازم/ بین۔ میں/ہم یا نامکہ
Account	Holde 	r Na r Na r Na still (البينيين المام Assig Meml پيپ کر پي پيپ کر پي ونی اداخت ونی اداخت المام Assig ونی اداخت المام المام ا	adhaa hoor/ کا قرار کا قرار کا قرار عام مالات نام عام کا البار مالات ہے کے مالات ہے کا طرح	ar incl فیملی باضای کیا مند کیا مند مام معا	udes sifero المالية ا	Aadh Fath Emp Trus PML PNB	aar Co ner bloyer st .I Em ورود المالية	ard, A ard, A r/ Em ploye	adha adha adha adha adha al ha adha a adha a a a a a a a a a a a a	ee ee PML PN proce proce pleto pleto pleto pleto pleto pleto proce pleto procept procept procept procept pleto procept procept pleto procept	والله tter, e والله وال	Aadl المحمد. إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ إ	haar, المام	m-Aa othe UF/ N s	r الله الله Alembi Alembi r Spe (S. (S.) المرابع الله الله الله الله الله الله الله الل	ام: و و و و و و و و و و و و و و و و و	mask mask ت ا الله : T ا الله الله الله الله الله الله الله ا	Spoon (S کیاتہ د کب حیال کب حیال کب حیال کب حیال کب دی نہیں کب دیال کب دی نہیں کب دیال کب دیال ک دیا ک دیال ک دیا ک دیال ک دیال ک دیال ک دیال ک دیا ک دیا ک دیال ک دیال ک دیا ک دیال ک	IF	yype c	ode: : : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	عی کوڈ کیا گیا آ پیا گیا آ پیاگیا آ پیا آ پیاگیا آ پیا آ	:: ایس س اسک ک ه. and c policive o ان ان ک ان ان ک ان ان ک	ل ايف اور م اور م اور م اور م ابم كننن ابم كنن ابم يا الماد الم الماد الم الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد اص الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم اص الم الم اص الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	augh ver قم فر قم فر bloye tions, و است و است	الر، ايد الدer رض/ر فرض/د inst t I sh gned	ای آده بیب قر اdvisor د all be د the :	خط، کons// SF ع این کا	. ادهار	الر کار ڈ ایشتہ spon: اندہ کا نا ادی طو	ساته ر اساته ر افزان الماته ا	و د ار و دار و د	ی کے ۔ ارشتہ see ap	یں ہونے <u>تفویض</u> کے الکام کے الکام کے SP کا	ا نام: الله الله الله الله الله الله الله الل	۔ بیبنک ک اکاؤنٹ *آدھار دیگر _ سوسائڈ دیگر _ ملازم/ ملازم/ بین۔ میں/ہم یا نامکہ
Account Branch I September 1 September 2	Holde 	r Na مید ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم ادم اد	البينيي المام n of A Assig Meml Entity ونی ادی ادوانی	adhaa hoor/ کا قرر کا قرر کا قرار خام قائد نام ملات بر ملات بر ملات بر ملات بر ملات بر ملات بر	ar incl فیملی باضای باضای کیا من درووا دراسان کیا من مام معا	udes = Asss that ang arr	Aadh Fath Emp Trus PMI PNB PNB Agree Area of the companion of the	aar Co ner bloyer st .I Em ورود المالية	ard, A ard, A r/ Em ploye	adha adha adha adha adha al ha adha a adha a a a a a a a a a a a a	ee ee PML PN proce proce pleto pleto pleto pleto pleto pleto proce pleto procept procept procept procept pleto procept procept pleto procept	والله tter, e والله وال	-Aadl firm ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	haar, المام	m-Aa othe UF/ N s	r الله Memb r Spe (S:	و و الم:	mask الركانام: تنام:	Spoor (S کیاتہ د کی حیا کی حیا کی حیا کی دیا کی دیا کیا کی دیا کی دیا ک دیا کی دیا ک دی دیا ک دیا ک دیا ک دی ک د دی ک دی ک دی ک دی ک د د ک د د ک د ک	اله	yype c	ode: : : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	عی کوڈ کیا گیا آ پیا گیا آ پیاگیا آ پیا آ پیاگیا آ پیا آ	:: ایس س اسک ک ه. and c policive o ان ان ک ان ان ک ان ان ک	ل ايف اور م اور م اور م اور م ابم كننن ابم كنن ابم يا الماد الم الماد الم الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد اص الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم اص الم الم اص الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	augh ver قم فر قم فر bloye tions, و است و است	الر، ايد الدer رض/ر فرض/د inst t I sh gned	ای آده بیب قر اdvisor د all be د the :	خط، کons// SF ع این کا	ان ادهار Others Social Social Annual Annu	الر کار ڈ ایشتہ spon: اندہ کا نا ادی طو	ساته ر اساته ر افزان الماته ا	و د ار و دار و د	ی کے ۔ ارشتہ see ap	یں ہونے <u>تفویض</u> کے الکام کے الکام کے SP کا	ا نام: الله الله الله الله الله الله الله الل	بینک ک - اکاونث *آدهار منتقل ک ادیگر سوسائٹ ک ملازم/ ملازم/ میں/ہم بیراء کر بیراء کر
Account Branch I September 1 September 2	Holde المرتث المرتث ا	r Na r Na with mily i فرد egal اره: :: ignm ersta this b كرت the p	بينين بين من n of A Assig Memil بيب تر پ يب تر پ Entity ونی ادا ونی ادا مونی ادا مون ادا مونی ادا م دا م دا م دا م د ا م د ا م د ا م د ا م د ا م د ا م د د ا م د د ا م د د ا م د د د ا م د د دا	adhaa hoor/ کا قرب کا قرب بطہ قاتا مطہ قاتا نتخل البا نتخط: ملات ب	eight ar incless and a second	udes = Asss that ang arr	Aadh Fath Emp Trus PMI PNB PNB Agree Area of the companion of the	aar Co ner bloyer st .I Em ورود المالية	ard, A ard, A r/ Em ploye	adha adha adha adha adha al ha adha a adha a a a a a a a a a a a a	ee ee PML PN proce proce pleto pleto pleto pleto pleto pleto proce pleto procept procept procept procept pleto procept procept pleto procept	والله tter, e والله وال	-Aadl firm ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	haar, المام	m-Aa othe UF/ N s	r الله Memb r Spe (S:	و و الم:	mask الركانام: تنام:	Spoor (S کیاتہ د کی حیا کی حیا کی حیا کی دیا کی دیا کیا کی دیا کی دیا ک دیا کی دیا ک دی دیا ک دیا ک دیا ک دی ک د دی ک دی ک دی ک دی ک د د ک د د ک د ک	اله	yype c	ode: : : ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا	عی کوڈ کیا گیا آ پیا گیا آ پیاگیا آ پیا آ پیاگیا آ پیا آ	:: ایس س اسک ک ه. and c policive o ان ان ک ان ان ک ان ان ک	ل ايف اور م اور م اور م اور م ابم كننن ابم كنن ابم يا الماد الم الماد الم الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد اص الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم اص الم الم اص الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	augh ver قم فر قم فر bloye tions, و است و است	الر، ايد الدer رض/ر فرض/د inst t I sh gned	ای آده بیب قر اdvisor د all be د the :	خط، کons// SF ع این کا	. ادهار	الر کار ڈ ایشتہ spon: اندہ کا نا ادی طو	ساته ر اساته ر افزان الماته ا	و د ار و دار و د	ی کے ۔ ارشتہ see ap	یں ہونے <u>تفویض</u> کے الکام کے الکام کے SP کا	ا نام: الله الله الله الله الله الله الله الل	بینک ک ۔ اکاؤنٹ *آدھار منتقل ک * منتقل ک دیگر _ منتقل م ملازم/ ملازم/ میں/ہم بیں۔میں

لیا گیا ہے۔ میں نے درخواست گزار/پالیسی کے مالک کی جانب سے فراہم کردہ معلومات/ہدایات کے	یں بذریعہ بذا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے درخواست کے مندرجات کی وضاحت درخواست گزار/پالیسی کے مالک کو اسے سمجھ آنے ہ مجھ لیا ہے اور درخواست گزار/پالیسی کے مالک کی جانب سے جوابات کوزبان میں ریکارڈ کرلیے
ہ ہے۔ ame of Declarant:	لابق جوابات درج کرلیے ہیں اور ان جوابات کو باُواز بلند اسے پڑھ کر سنا دیا ہے جنہیں اس نے سمجھ لیا ہے اور ان کی تصدیق کردی ۔
	لان كننده كا نام:
ate: DD-MM-YYYY	Signature: DD-MM-YYYY: يخ:
litness Details	اه كي تقصيلات
ıll Name of the Witness:	اه کا مکمل نام:
ddress of the Witness:	· ·
gnature:	اه کا پئہ:
nto Place	تغط:
ate: Place:	يخ: مقام:
erms and Conditions	
Term 'Assignor' stands for the current policyholder who intends to assign th	<u>انط و ضوابط</u> he policy and 'Assignee' stands for the person in whose favour the policy is to be assigned;
اس شخص کے لیے ہے جسے پالیسی منتقل کی جائے گی؛ In case the Assignee is a Tax Resident of a country other than India, the FATi	نتقل کنندہ' کی اصطلاح موجّودہ پالیسی کے مالک کے لیے ہے جو پالیسی منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور 'منتقل اللیہ' کی اصطلاح ا، [CA / CRS Questionnaire should be submitted:
In case the Assignee is a minor, the legal/natural guardian of the minor shall	ز منتقل الیہ انڈیا کے علاوہ کسی دوسرے ملک کا ٹیکس رہائشی ہے، تو FATCA / CRS کا سوالنامہ جمع کروایا جائے گا؛
The Surrender and Cash Withdrawals (wherever applicable) would be admis	ر منتقل الیہ نابالغ فرد ہو، تو اس نابالغ فرد کا قانونی/حقیقی سرپرست اس کی طرف سے دستخط کر ے گا؛
	value after the fillinor attains the majority, بالغ فرد کے بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد دستبرداری اور رقم کا نکالنا (حسب اطلاق) قابل قبول ہوگا؛ nce with the Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended from time to time, giving reasons for suc
rejection. The policyholder may approach Insurance Regulatory & Developm	nce with the section 38 of the insurance Act 1938, as amended from time to time, giving reasons for suc ment Authority of India (IRDAI) within 30 days of the receipt of notice of such rejection; PMI منتقلی کی توثیق کی درخواست کو انشورنس ایکٹ 1938 کے سیکشن 38 (وقتاً فوقتاً قابلِ ترمیم) کے مطابق، استرداد کی وجہ بیا
If the policy is assigned to a lender to secure a loan, then the policy shall sta	.ر انشورنس ریگولیٹری اور ڈویلپمنٹ اتھارٹی آف انڈیا (IRDAI) سے رجوع کرسکتا ہے؛ and conditionally assigned to the lender till such time the loan, as secured by this policy, is repaid. The lende:
	۔ ر یہ پالیسی قرضہ محفوظ کرنے کے لیے قرض فراہم کنندہ کو منتقل کی جائے، تو اس صورت میں قرض فراہم کنندہ کو یہ پالیسی مشرہ
The Assignor with suitable concurrence from the Assignee/lender shall intim	نقل کنندہ کی جانب سے قرض کی عدم واپسی یا NPA کی صورت میں قرض فراہم کنندہ اس پالیسی سے دستبردار ہوسکتا ہے/اسے خار ;mate PMLI about its loan closure for suitable re-assignment of the policy to the Assignor
	نقل الیہ/قرض فراہم کنندہ کی جانب سے موزوں اتفاق رائے کے ساتھ، منتقل کنندہ خود کو پالیسی کی موزوں دوبارہ منتقلی کے لیے اپنے d confirmation provided herein by Assignor and Assignee shall be considered as a consent to make the re
	، کی پالیسی کی دوبارہ منتقلی ایک علیحدہ دستاویز سے کی جائے گی اور منتقل کنندہ اور منتقل الیہ کی جانب سے فراہم کردہ تصدیق کو red by the assignee by submitting a fresh nomination form, as the original nomination gets automatical
In case of re-assignment, if no new nomination is given, nominee details as	
_	
she need to provide fresh Direct Debit registration request	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he ر پریمینم تفویض الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو ، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈییٹ/ACH فعال (اگر کرئی ہو) منسوخ ہوجائے گا۔ اگر تفوی
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمیئم کی کٹوٹی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریٹ Any matter written in vernacular should have the English translation writter	e (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (اگر کوئی ہو) منسوخ ہوجائے گا۔ اگر تفویر پریمینۂ تفویض الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈییٹ/ ACH فعال ایک کی درخواست فراہم کرنا ہوگی نئی درخواست فراہم کرنا ہوگی n beneath the same and attested in the manner given above;
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمیئم کی کٹوٹی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریٹ Any matter written in vernacular should have the English translation writter	e (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (پر پرمینه تفویض الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈیبٹ/ ACH فعال (اگر کوئی ہو) منسوخ ہوجائے گا۔ اگر تفویہ نہ beneath the same and attested in the manner given above; امی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جائے اور مذکورہ با/ nment;
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمیئم کی کٹوتی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریڈ Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assigr In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he و (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he پریمینم تفویض الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈیبٹ/ ACH فعال الیہ کرنا ہوگی n beneath the same and attested in the manner given above; امی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جانے اور مذکورہ با/ nment; پنی اس منتقلی کی قانونی حیثیت یا جواز کے حوالے سے کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی؛ er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa;
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمیئم کی کٹوتی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریڈ Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assigr In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he و (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he ر پریمینه تفویض الیه کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈیبٹ/ ACH فعال الیہ کرنا ہوگی n beneath the same and attested in the manner given above; امی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جانے اور مذکورہ با/ nment; پنی اس منتقلی کی قانونی حیثیت یا جواز کے حوالے سے کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی؛ er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa;
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمیئم کی کٹوتی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریٹ Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe نر کنندہ کے حوالے کرنا ہوگا اور اس کے بر عکس؛ Policy servicing charges may be levied as applicable.	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (پر پر پیدند نویس الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو ، تو مرجودہ ڈائریکٹ ڈیبٹ/ ACH فعال (اگر کرنی ہو) منسوخ ہوجائے گا۔ اگر تفویر n beneath the same and attested in the manner given above; امی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جائے اور مذکورہ با/ nment; پنی اس منتقلی کی قانونی حیثیت یا جواز کے حوالے سے کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی؛ er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; تقویض / دوبارہ تقویض کی درخواست ای میل / دیگر ٹیجیٹل طریقوں کے ذریعہ موصول ہوتی ہے تو ، تقویض کنندہ کو پالیسی دستاویز تقویض
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمینم کی کٹوئی ڈائریکٹ ڈییٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈییٹ کی رجسٹریش Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe نن کنندہ کے حوالے کرنا ہوگا اور اس کے بر عکس؛	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (پر پر پ
she need to provide fresh Direct Debit registration request يض اليه پريمينم كى كثوتى ڈائريكٹ ڈييٹ كے زيعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائريكٹ ڈييٹ كى رجسٹريش Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طريقے پر تصديق يافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe نن كننده كے حو الے كرنا ہوگا اور اس كے ہر عكس؛ Policy servicing charges may be levied as applicable. ssignee Declaration hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (پر پر پ
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمینہ کی کٹوتی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریٹ Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe الا معرف میں اور اس کے بر عکس؛ Policy servicing charges may be levied as applicable. Seignee Declaration The company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe Seignee Declaration The company expresses no opinion as to the legality or validity of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. The company expresses no opinion as to the legality or validity of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above.	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (بر پویند کی در خواست فراہم کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو ، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈییٹ ACH نفویل میں تنہ کی در خواست فراہم کرنا ہوگی n beneath the same and attested in the manner given above; المی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جائے اور مذکورہ با/ nment; پنی اس منتقلی کی قانونی حیثیت یا جواز کے حوالے سے کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی؛ er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; المی تقویض / دوبارہ تقویض کی درخواست ای میل / دیگر ڈیجیٹل طریقوں کے ذریعہ موصول ہوتی ہے تو ، تقویض کنندہ کو پالیسی دستاریز تقویض یسی کے سروسنگ چار جز حسب اطلاق لاگو کیے جاسکتے ہیں۔ t of my knowledge and belief and I undertake to inform you any of any changes therein, immediately. In cas representing, I am aware that I may be held liable for it. I hereby consent to receiving information from CKY
she need to provide fresh Direct Debit registration request بیض الیہ پریمیئم کی کٹوتی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریش Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe نن کنندہ کے حوالے کرنا ہوگا اور اس کے بر عکس؛ Policy servicing charges may be levied as applicable. **Signee Declaration** The company expresses no opinion as to the legality or validity of the assignment is received via email/othe service with the details for the service of the legality or validity of the assignment is received via email/othe service of the service of the legality servicing charges may be levied as applicable. **Signee Declaration** **Bereby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Declaration** **Bereby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Declaration** **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Declaration** **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information in the above. **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information in the above. **Berby declare that the details furnished above are t	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (پرمینہ تفویض الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو ، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈییٹ ACH/ نفویل میں ناچہ کرنا ہوگی n beneath the same and attested in the manner given above; امی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جانے اور مذکورہ پا nment; پنی اس منتقلی کی قانونی حیثیت یا جواز کے حوالے سے کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی؛ er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; to figure کی درخواست ای میل / دیگر ٹیجیٹل طریقوں کے ذریعہ موصول ہوتی ہے تو ، تقویض کنندہ کو پالیسی دستاویز تقویض لا میں ایش یا اقرار to f my knowledge and belief and I undertake to inform you any of any changes therein, immediately. In cas representing, I am aware that I may be held liable for it. I hereby consent to receiving information from CKY کی بین یہ اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ در ج بالا تفصیلات میں علم اور یقین کے مطابق درست اور سچ ہیں اور میں ان تفصیلات میں کسی کی میں ایس ایم ایس/ای میل کے ذریعہ معلومات حاصل کرنے کی رضامندی دیتا/دیتی ہوں۔ Signature of Assignee: Signature of Assignee:
she need to provide fresh Direct Debit registration request یض الیہ پریمیٹم کی کٹوتی ڈائریکٹ ڈییٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈییٹ کی رجسٹریش Any matter written in vernacular should have the English translation writter الاطریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe الاطریقے کے حوالے کرنا ہوگا اور اس کے بر عکس؛ Policy servicing charges may be levied as applicable. ssignee Declaration mereby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or mismegistry through SMS/ Email on the above. Signature of Assignor: Any of the above information is found to be false or untrue or misleading or mismegistry through SMS/ Email on the above. Signature of Assignor: Signature of Assignor: Mitter Landton	ve (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (if any) would get cancelled. In case the assignee wants premium to be deducted through Direct Debit, he (پرمینہ تفویض الیہ کی جانب سے ادا کیا جا رہا ہو ، تو موجودہ ڈائریکٹ ڈییٹ ACH/ نفویل میں ناچہ کرنا ہوگی n beneath the same and attested in the manner given above; امی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جانے اور مذکورہ پا nment; پنی اس منتقلی کی قانونی حیثیت یا جواز کے حوالے سے کسی رائے کا اظہار نہیں کرتی؛ er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; to figure کی درخواست ای میل / دیگر ٹیجیٹل طریقوں کے ذریعہ موصول ہوتی ہے تو ، تقویض کنندہ کو پالیسی دستاویز تقویض لا میں ایش یا اقرار to f my knowledge and belief and I undertake to inform you any of any changes therein, immediately. In cas representing, I am aware that I may be held liable for it. I hereby consent to receiving information from CKY کی بین یہ اقرار کرتا/کرتی ہوں کہ در ج بالا تفصیلات میں علم اور یقین کے مطابق درست اور سچ ہیں اور میں ان تفصیلات میں کسی کی میں ایس ایم ایس/ای میل کے ذریعہ معلومات حاصل کرنے کی رضامندی دیتا/دیتی ہوں۔ Signature of Assignee: Signature of Assignee:
she need to provide fresh Direct Debit registration request بیض الیہ پریمیئم کی کٹوتی ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے چاہتا ہو ، تو اسے ڈائریکٹ ڈیبٹ کی رجسٹریش Any matter written in vernacular should have the English translation writter الا طریقے پر تصدیق یافتہ ہو ؛ The Company expresses no opinion as to the legality or validity of the assign In case the request for assignment/ reassignment is received via email/othe نن کنندہ کے حوالے کرنا ہوگا اور اس کے بر عکس؛ Policy servicing charges may be levied as applicable. **Signee Declaration** The company expresses no opinion as to the legality or validity of the assignment is received via email/othe service with the details for the service of the legality or validity of the assignment is received via email/othe service of the service of the legality servicing charges may be levied as applicable. **Signee Declaration** **Bereby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Declaration** **Bereby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Declaration** **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Declaration** **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information is found to be false or untrue or misleading or misregistry through SMS/ Email on the above. **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information in the above. **Berby declare that the details furnished above are true and correct to the best by of the above information in the above. **Berby declare that the details furnished above are t	نامی زبان میں تحریر کردہ کسی بھی متن کا انگریزی میں ترجمہ ہونا چاہیے جسے متعلقہ متن کے نیچے تحریر کیا جائے اور مذکورہ با! nment; rment; er digital modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; crack to find modes, the assignor has to hand over the policy document to the assignee and vice- versa; crack to seguence to the assignee and vice- versa; frage to seguence to seguence to seguence to the assignee and vice- versa; frage to seguence to se

Vernacular Declaration: To be filled in case policyholder's signatures is in the form of a thumb impression (left thumb) or in a vernacular language:

I hereby declare that, I have fully explained the contents of the Application to the Applicant/Policyholder in the language understood by him/her. The same have been fully understood by the

مقامی زبان کا اعلامیہ: اس صورت میں پُر کیا جائے کہ جب پالیسی کے مالک کے دستخط انگوٹھے (بائیں انگوٹھے) کے نشان کی شکل میں یا مقامی زبان میں ہوں:

To be filled by Branch Services – Mandatory			
Request received from Customer Customer Represe کسٹمر درخواست موصول ہونی از	ntative 🗆 Bank 🗀 Courier بینک کسٹمر نمائندہ		برانج سروسز کی جانب سے پُر کیا جانے گا – لازمی کورنیر
	Employee ID:	Employee Signature	<u> </u>
Form Received By: Employee Name: ملازم کا دستخط:	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
Request Received date at Branch: DD-MM-YYYY	محرم هی اتی دی:		عارم موصوں ہوا بدریعہ: محررم کا نام:
	شاخ میں درخواست موصول ہونے کا وقت: HH:MM	DD-M	شاخ میں درخواست موصول ہونے کی تاریخ: M-YYYY
		Γ	Branch Seal
			شاخ کی مہر
3<	→><	><	
	<u>Acknowledgement Slip</u> <u>منظوری کی رسید</u>		
Received a request for			
بالیسی نمبر کے لئے			کے لنے درخواست موصول ہوا:
مبر کے لئے at			کے لئے درجواہت موسوں ہوا۔
	am/pm صب	قان	پر بمقام
Received By: Employee Code			
	ملازم کا نامملازم کا		موصول کرده بذریعہ: ملازم کوڈ
			Branch Stamp
			برانج اسثيمپ

Registered office: Unit No. 701, 702 & 703, 7th Floor, West Wing, Raheja Towers, 26/27 M G Road, Bangalore -560001, Karnataka. IRDA of India Registration number 117. CI No. U66010KA2001PLC028883, call us Toll-free at 1-800-425-6969, Website: www.pnbmetlife.com, Email: indiaservice@pnbmetlife.co.in or write to us at 1st Floor, Techniplex -1, Techniplex Complex, Off Veer Savarkar Flyover, Goregaon (West), Mumbai – 400062. Phone: +91-22-41790000, Fax: +91-22-41790203

رجست (۱۳۵۰ میراند) دفتر: یونٹ نمبر 701، 702 اور 703، ساتویں منزل، ویسٹ ونگ، راہیجہ ٹاورز، 27/26 ایم جی روڈ، بنگلور۔560001 کرناٹکا۔ IRDA از بھارت رجسٹریشن نمبر 711۔

نمبر U66010KA2001PLC028883، ہمیں 6969-425-408-01 پر ٹول فری کال کریں، ویب سانٹ: www.pnbmetlife.com، ای میل: indiaservice@pnbmetlife.coin یا درج ذیل پتنے پر مراسلہ بھیجیں پہلی منزل، ٹیکنی پلیکس۔1،

ٹیکنی پلیکس کمپلیکس، آف ویر سرکار فلاتی اوور، گوری گاؤں (ویسٹ)، ممبنی — 400062، فون: 41790000 فین۔ 1-2-19؛ فیکس: 4179020 ہے۔19؛